

برائے فوری اجراء

برامپٹن کے بورونٹیریو سٹیلیز ایریا میں تبدیلی کے حوالے سے رہائشیوں کو ورچونل ٹاؤن ہال میں شرکت کی دعوت دی جاتی ہے

برامپٹن، آن (28 ستمبر 2020) - رہائشیوں کو دعوت دی جاتی ہے کہ وہ ٹرانزٹ اورینٹڈ کمیونٹیز اور اپ ٹاؤن برامپٹن بورونٹیریو سٹیلیز ایریا (جسے مقامی طور پر شاپرز ورلڈ بھی کہا جاتا ہے) کے بارے میں مزید جاننے کے لیے بروز جمعرات مورخہ 30 اکتوبر کو شام 6 تا 8:30 بجے تک منعقد کیے جانے والے ورچونل ٹاؤن ہال میں شرکت کریں۔

اربن لینڈ انسٹیٹیوٹ کی جانب سے سٹی آف برامپٹن، سٹی آف ہیلیسنکی، گرین برگ کنسلٹنٹس اور یونیورسٹی آف ٹورانٹو سکول آف سٹیز کے اشتراک سے منعقد کیے جانے والے اس ورچونل پروگرام میں اپ ٹاؤن شاپرز ورلڈ کی "20 منٹ واک ایبل نیبرہوڈ" میں تبدیلی کے اس پرجوش منصوبے کے حوالے سے شہریوں کو اس شعبے سے تعلق رکھنے والے ماہرین کے قیمتی خیالات سننے کا موقع میسر آئے گا اور وہ ان سے سوالات بھی پوچھ سکیں گے۔ تبدیلی کے بعد یہ ایک انتہائی کثیف، متعدد پہلوؤں سے قابل استعمال، خاندان دوستانہ، صحت مندانہ اور نقل و حمل کے ذرائع سے قریب تر مرکز کی شکل اختیار کر لے گا۔

قابل ذکر مقررین میں شامل ہیں:

- پیٹرک براؤن، میئر، سٹی آف برامپٹن
- مارٹن میڈیروس، ریجنل کونسلر، وارڈز 3 اور 4؛ چیئر، پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ، سٹی آف برامپٹن
- ایڈوریٹو مورینو، ڈائریکٹر آف سٹی پراسپیٹی انڈیکس، یو این بی بی بیٹھ
- عزت مآب کنگا سُرما، ایسوسی ایٹ منسٹر آف ٹرانسپورٹیشن، اونٹیریو منسٹری آف ٹرانسپورٹیشن
- جوناتھن گٹلن، چیف آپریٹنگ آفیسر، ریوکن ریٹ (RioCan REIT)
- اینی سنیمائی، ڈپٹی میئر آف اربن انوائرنمنٹ، سٹی آف ہیلیسنکی
- جانی مولیس، ہیڈ آف انٹرنیشنل افیئرز، سٹی آف ہیلیسنکی
- ویونے بیونگ، منیجر آف ارب ڈیزائن، سٹی آف برامپٹن
- کین گرین برگ، پرنسپل، گرین برگ کنسلٹنٹس
- مائی سانیمیٹاکی، یونیورسٹی آف ٹورانٹو سکول آف سٹیز
- بوب بجرکے، ڈائریکٹر آف پالیسی پلاننگ، سٹی آف برامپٹن
- رچرڈ فارورڈ، کمشنر، سٹی آف برامپٹن
- اینڈریو ڈنکن، SVP آف ڈیولپمنٹ، RioCAN REIT
- ڈاکٹر لارنس لوہ، میڈیکل آفیسر آف ہیلتھ، پبل پبلک ہیلتھ
- ڈیو کیپل، چیئر، نیو برامپٹن
- رچرڈ جوائے، ایگزیکٹو ڈائریکٹر، ULI ٹورینٹو
- ایما ویسٹ، چیئر، ULI ٹورینٹو

شہری ٹاؤن ہال کے لیے [یہاں رجسٹر](#) ہو سکتے ہیں۔

اپ ٹاؤن برامپٹن کے بارے میں

اپ ٹاؤن فریم ورک پلان، برامپٹن 2040 ویژن اور کونسل کی 2018 تا 2022 کی مدت کی ترجیحات پر مزید عمل درآمد کو تقویت پہنچائے گا، جس کا مقصد نجی سرمایہ کاری کو اپنی جانب راغب کرنا اور اپ ٹاؤن کے علاقے کو ایک ٹرانزٹ اورینٹڈ کمیونٹی میں تبدیل کرنا ہے۔ اس منصوبے کی تکمیل میں کئی بڑے ڈیولپرز نے بہت دلچسپی کا اظہار کیا ہے اور یہ تبدیلی ٹرانسپورٹ کے موجودہ انفراسٹرکچر، عوامی نقل و حمل تک رسائی کے نظام اور پُرکشش عوامی مقامات تک رسائی کو پورے علاقے میں باہم مربوط کر کے گاڑی کے ذریعے سفر کے موجود انتظامات کو تبدیل کر دے گا۔

ہورونٹیریو اور سٹیلس کے انٹرسیکشن پر واقع ہے۔ لائن ریل ٹرانزٹ اسٹیشن سے 5 منٹ کی پیدل مسافت جو 2024 میں پایہ تکمیل کو پہنچے گی۔ جس سے شاپرز ورلڈ اربن کمیونٹی ہب کی وجہ سے شہری ہمسائیگی کے کلیدی مراکز ایک مرکزی مقام پر میسر آ جائیں گے۔ اپ ٹاؤن کے مرکزی علاقے کو حقیقی ٹرانزٹ پر مبنی کمیونٹی میں دوبارہ تبدیل کر کے،

برامپٹن کے رہائشیوں کے معاشرتی و جسمانی روابط میں اضافہ ہو گا، انہیں انداز زندگی کے لیے سازگار شہری ڈیزائن میسر ہو گا، الودگی میں کمی واقع ہو گی اور اس کے علاوہ معاشی بڑھوتری سے ملازمت پیدا ہو گی۔

اقتباسات

"برامپٹن مواقع پیدا کے بارے میں پیشگی سوچ رکھنے والا ایک شہر ہے اور ہم ایک متحرک، صحت مندانہ اور کلی طور پر مکمل معاشرے کے لیے سمارٹ منصوبہ بندی کی راہ پر گامزن ہیں۔ میں تمام رہائشیوں کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں کہ وہ اپ ٹاؤن برامپٹن ورچوئل ایونٹ میں حصہ لیں اور 20 منٹ چلنے کے قابل کمیونٹیوں کے بارے میں جانیں اور ہم اس حوالے سے بھی آپ کے خیالات جاننا چاہتے ہیں کہ آپ اس علاقے کو کیسا بنتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہم سب مل کر ہی اپ ٹاؤن برامپٹن کی صلاحیتوں کو نکھار کر سامنے لا سکتے ہیں۔"

- پیٹرک براؤن، میئر، سٹی آف برامپٹن

"میٹروولونکس 2041 ریجنل ٹرانسپورٹیشن پلان اور برامپٹن آفیشل پلان میں گیٹ وے موبیلٹی ہب کے طور پر ہورونٹیریو ایل آر ٹی کے اسٹیلز اسٹاپ کو زیر غور لایا گیا ہے۔ اس منصوبے کو بلند و کثیف بڑھوتری کے لیے سازگار رکھا گیا ہے اور سفر کے متعدد ذرائع کے ڈیزائنوں پر خصوصی توجہ دی گئی ہے، اور اس میں پیدل چلنے اور سائیکل چلانے کے لیے اعلیٰ معیار کا انفراسٹرکچر بنانے کو بطور خاص اہمیت دی گئی ہے۔ اگر اس عالمی وباء نے ہمیں کوئی چیز سکھائی ہے، تو وہ یہ کہ ہمیں نئے چیلنجز اور بدلتے ہوئے رویوں کے ساتھ لازمی طور پر مطابقت پیدا کرنی چاہیے۔ اپ ٹاؤن کو نقل و حمل کے لیے سازگار بنانے کا کام مکمل طور پر حقیقت پسندانہ ہے۔"

- مارٹن میڈیروس، ریجنل کونسلر، وارڈز 3 اور 4؛ چیئر، پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ، سٹی آف برامپٹن

"اپ ٹاؤن کے مرکزی علاقے میں اربن ہب کے ابھرتے ہوئے منصوبے کو اربن کمیونٹی ہب امپلیمنٹیشن پلان کی مکمل رہنمائی حاصل ہے۔ ان مقامات کو کامیابی سے ہمکنار کرنے والی حکمت عملیوں سے حاصل ہونے والے فوائد کا احساس ہمیں معاشی اور انسانی دونوں لحاظ سے ہو گا۔ اس میں شامل ہیں ملازمتیں پیدا کرنا، صحت عامہ میں بہتری لانا، معاشرتی ہم آہنگی پیدا کرنا اور ماحول دوست اقدامات کے تحت قابل فہم ترقی۔ یہ ورچوئل ایونٹ برامپٹن کے لوگوں کو اس منصوبے سے وابستہ رکھنا اور اس دلچسپ منصوبے پر مزید تعاون کی ترغیب دینے کا ایک زبردست موقع ہے۔"

- ہیٹ فورٹینی، ریجنل کونسلر، وارڈز 7 اور 8؛ وائس چیئر، پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ، سٹی آف برامپٹن

"سٹی کی جانب سے ہم ایک ایسے مکمل معاشرے کی تشکیل کی منصوبہ بندی کرنے کے لیے وقف ہیں جو رہنے کے قابل، صحت مندانہ اور ہمارے رہائشیوں کے نظریات اور ضروریات کی عکاسی کرتا ہو۔ اپ ٹاؤن برامپٹن ورچوئل ٹاؤن ہال، برامپٹن کے شہریوں کو اپ ٹاؤن برامپٹن کے حوالے سے سٹی کے منصوبوں کے بارے میں مزید جاننے کا موقع فراہم کرے گا، وہ عملے سے سوالات پوچھ سکیں گے اور اس حوالے سے اپنی قیمتی آراء سے آگاہ کر سکیں گے کہ اس علاقے کو نقل و حرکت کے سازگار ذرائع کی حامل کمیونٹی کے طور پر کس طرح تیار کیا جانا چاہیے۔"

- ڈیوڈ بیرک، چیف ایڈمنسٹریٹو آفیسر، سٹی آف برامپٹن

"اگلے کئی سال ہمارے خطے کی بڑھوتری کے حوالے سے انتہائی اہمیت کے حامل ہیں۔ عوامی پالیسی سازوں، صنعت اور مقامی کمیونٹیز کی جانب سے ایک مثبت قیادت کے ذریعے ہمیں ترقی کے جدید اور ذمہ دارانہ انداز کے نفاذ کو آگے بڑھانے کے لیے ایک رہنے کے قابل، مساوی، متنوع اور جامع نظریات کی حامل سوچ کو عملی جامہ پہنانے کی ضرورت ہے۔ برامپٹن کا فعال نقطہ نظر اس راہ پر چلنے میں ہمارے لیے مدد و معاون ہے اور اس جیسے ایویٹس تعاون کی فضاء کو فروغ دینے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ ایسے ایویٹس اس موضوع پر ایک وسیع انداز میں بات چیت کے عمل کو آگے بڑھا سکتے ہیں کہ ہم اپنے خاندانوں کے لیے کس قسم کے شہر چاہتے ہیں۔"

- رچرڈ جوائے، ایگزیکٹو ڈائریکٹر، اربن لیڈ انسٹیٹیوٹ، ٹورینٹو

"ہم گریٹر ٹورینٹو ایریا میں ترقی کے اس بحث مباحثے میں حصہ لینے کے لیے انتہائی خوش اور پرجوش ہیں۔ نیز بڑھوتری کی وجہ سے ہیلیسنکی کو کئی چیلنجز کا سامنا ہے، مگر اپنے مستقبل کی منصوبہ سازی کرنے کے لیے ہم میں جوش و جذبہ بھی پایا جاتا ہے۔ میری خواہش ہے کہ یہ بحث مباحثہ نتیجہ خیز ثابت ہو اور واقعتاً امید کرتی ہوں کہ ہیلیسنکی کا تجربہ برامپٹن کے نئے اپ ٹاؤن اربن ہب کے منصوبوں میں بہتری لانے میں مفید ثابت ہو گا۔"

- اینی سنیماسکی، ڈپٹی میئر، سٹی آف ہیلیسنکی اور چیئر آف اربن انوائرنمنٹ

"شاہرز ورلڈ کا موقع آنے پر، برامپٹن اپنے طے شدہ 2040 ویزن کی تکمیل کے لیے ایک پر جوش قدم آگے بڑھانے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ سٹیلیز اور ہورہیٹیر/یو/مین اسٹریٹ کے پاس لائٹ ریل کی متوقع آمد کے ساتھ پیدل چلنے کے قابل قرب و جوار کے مقامات کی تعمیر اور 20 منٹ کے ٹرانزٹ پر مبنی نقطہ نظر کو عملی جامہ پہنانے کے لیے سٹی، ریجن اور صوبہ کے تعاون سے چھ بڑے ڈیولپرز اس منصوبہ پر عمل درآمد کرنے کے لیے بالکل تیار ہیں۔ یہ اقدام ایک نسبتاً نئی، متحرک اور تیزی سے بڑھتی ہوئی GTA میونسپلٹی کے لیے زیادہ پائیدار، جامع اور خوشحال مستقبل کی طرف اشارہ کرتا ہے۔"

- کین گرین برگ، پرنسپل آف گرین برگ کنسلٹنٹس

30--

کینیڈا میں تیز ترین رفتار سے بڑھنے والے شہروں میں سے ایک کے طور پر برامپٹن 650,000 لوگوں اور 70,000 کاروباروں کا گھر ہے۔ ہمارے ہر عمل کا مرکز عوام ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنی متنوع کمیونٹی سے توانائی ملتی ہے، ہم سرمایہ کاری کے لیے کشش پیدا کرتے ہیں اور ہم ٹیکنالوجی اور ماحولیاتی جدت میں رہنما کردار ادا کرنے کے سفر پر نکل رہے ہیں۔ ہم ایک صحت مند شہر کی تعمیر میں بڑھوتری کے لیے مل کر کام کرتے ہیں، جو محفوظ، قابل استحکام اور کامیاب ہو۔ ہمارے ساتھ ٹویٹر، فیس بک اور انسٹاگرام پر مربوط ہوں۔ www.brampton.ca پر مزید جانیں۔

میڈیا کنٹیکٹ

مونیکا ڈوگال

کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ

اسٹریٹیجک کمیونیکیشن

سٹی آف برامپٹن

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca